

129173- سجدہ تلاوت کیلئے تکبیر کتنا

سوال

سوال: کیا نماز کے دوران یا خارج از نماز سجدہ تلاوت کرنے کیلئے تکبیر لازمی ہے؟ اور کیا خارج از نماز سجدہ تلاوت کرتے ہوئے سلام پھیرنا ضروری ہے؟

پسندیدہ جواب

"نماز میں سجدہ تلاوت نماز میں کیے جانے والے عام سجدے کی طرح ہے، چنانچہ سجدہ کرتے ہوئے، اور سجدے سے اٹھتے ہوئے تکبیر کہیں گے، اس کی دلیل یہ ہے کہ: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ آپ نماز میں اٹھتے بیٹھتے ہر جگہ تکبیر کہتے تھے، جب آپ سجدہ کرتے تو تکبیر کہتے، جب کھڑے ہوتے تو تکبیر کہتے، ابوہریرہ سمیت دیگر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے ایسے ہی بیان کیا ہے، اور سجدہ تلاوت بھی نماز ہی کا ایک سجدہ ہے، چنانچہ سجدہ تلاوت کیلئے تکبیر کہنے کی یہ سب سے واضح ترین دلیل ہے۔

جبکہ خارج از نماز سجدہ تلاوت کے متعلق صرف سجدہ کی ابتدا میں تکبیر منقول ہے، یہی موقف مشہور و معروف ہے، اور اسے ابو داؤد اور حاکم نے روایت کیا ہے، البتہ خارج از نماز سجدہ تلاوت سے اٹھنے کیلئے کوئی تکبیر یا سلام منقول نہیں ہے، کچھ اہل علم کا یہ کہنا ہے کہ سجدہ سے اٹھنے کیلئے تکبیر کہی جائے گی، اور سلام بھی پھیرا جائے گا، لیکن اس بارے میں کوئی دلیل نہیں ہے، لہذا خارج از نماز سجدہ تلاوت کی صورت میں صرف سجدے کی ابتدا میں تکبیر کتنا شرعی عمل ہے۔ اللہ تعالیٰ ہی توفیق دینے والا ہے" انتہی۔